

تاریخ: _____

عزیزی والدین یا سرپرست:

ازراہ کرم نوٹ کریں آپکے بچے کے سر میں جوئیں پائی گئی ہیں۔ سر کی جوئیں اسکولی عمر کے طلبا میں عام طور پر پائی جاتی ہیں۔ سر کی جوئیں صفائی نہ ہونے کی طرف اشارہ نہیں کرتیں اور یہ کسی کو بھی ہوسکتی ہیں۔ جوئیں متعدی امراض منتقل نہیں کرتیں اور کسی شخص کی صحت کو خطرے میں نہیں ڈالتیں۔

آپ "جوؤں کے متعلق حقائق" اور "جوؤں کا خاتمہ کرنے کی اہل خانہ کے لیے رہنمائی" کو منسلک پائیں گے تاکہ آپکے بچے کے لیے فی الفور علاج فراہم کرنے میں آپکی مدد کی جاسکے۔

نیویارک شہر کے اسکولوں کی "جوئیں نہ ہونے" کی پالیسی بچے جس کا مطلب ہے:

- کوئی بھی طالب علم جس کی سر کی جوئیں زندہ ہیں اسکو اس وقت تک اسکول واپس آنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک وہ علاج حاصل نہ کرے۔
- علاج کے بعد بچے کو صرف اس وقت اسکول میں واپس آنے کی اجازت دی جائے گی جب اسکے بال جوؤں سے پاک ہوں گے۔
- اسکول میں واپسی پر طلبا کا پرنسپل کے نامزد کردہ فرد کے ذریعے دوبارہ معائنہ کیا جائے گا۔
- وہ طلبا جن کی جوئیں ختم ہو گئی ہیں انکا 14 کیلنڈر ایام کے اندر (یا سب سے قریب اسکولی دن اگر چودھواں (14) دن ہفتہ / اتوار یا کسی تعطیل کے روز ہو) پرنسپل کے نامزد کردہ فرد کے ذریعے دوبارہ معائنہ کیا جائے گا۔
- جن طلبا کے دوبارہ معائنہ کرنے پر سر میں جوئیں پائی جائیں گی انکو ایک بار پھر اس وقت تک خارج کر دیا جائے گا جب تک انکا سر جوؤں سے پاک نہ ہو۔

ہم تاکید کرتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کے تمام ممبران کا جوؤں کے لیے معائنہ کریں اور ضرورت پڑنے پر علاج کریں۔ ہم یہ بھی تجویز کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو برش، کنگھی یا ٹوپیوں جیسی ذاتی اشیاء کو دیگر طلبا کے ساتھ نہ بانٹنے کی یاد دہانی کروائیں۔

اگر آپ کے کوئی مزید سوالات ہیں، تو برائے مہربانی اپنے طبی خدمات کے فراہم کنندہ سے رجوع کریں یا اسکول نرس سے _____ پر رابطہ کریں۔